



## سوال

(541) قربانی کی کھال کسی مال دار دوست کو گوشت کی طرح بطور ہدیہ دی جا سکتی ہے؟

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

قربانی کی کھال کسی مال دار دوست کو بطور ہدیہ دی جا سکتی ہے جیسے گوشت ہدیہ دیا جاتا ہے؟ (سائل) (۱۰ مئی ۲۰۰۲ء)

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

ہاں قربانی کی کھال کسی مال دار کو بطور ہدیہ دی جا سکتی ہے۔ قربانی کے گوشت اور ہڈیوں کا حکم ایک جیسا ہے۔ ابتداء میں جب رسول اللہ ﷺ نے تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع فرمایا تھا، تو صحابہ نے ہڈیوں کی مشکلیں بنانی بھی ترک کر دی تھیں۔ اگر قربانی کا ہڈیہ گوشت کا حکم نہ رکھتا تو صحابہ رضی اللہ عنہم مشکلیں بنانا ترک نہ کرتے۔ (منتقى الاخبار)

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

## فتاویٰ حافظ ثناء اللہ مدنی

جلد: 3، کتاب الصوم: صفحہ: 419

محدث فتویٰ